

Joint Press Release of the 6th Deputy National Security Adviser Level Meeting of the Colombo Security Conclave

July 07, 2022

کولمبو سیکورٹی کانکلیو کے 6ویں نائب قومی سلامتی مشیر کی سطح کے اجلاس کی
مشترکہ پریس ریلیز

07 جولائی، 2022

کولمبو سیکورٹی کانکلیو کے رکن ممالک جس میں ہندوستان، مالدیپ، ماریشس اور سری لنکا شامل ہیں، نے 7 جولائی 2022 کو کوچی میں ہندوستان کی قومی سلامتی کونسل کے سکرٹریٹ کی میزبانی میں منعقدہ 6 ویں نائب قومی سلامتی مشیر کی سطح کی میٹنگ کامیابی کے ساتھ ختم کی۔ بنگلہ دیش اور سیشلز کے وفود نے بطور مبصر شرکت کی۔

جمہوریہ ہند کے نائب قومی سلامتی مشیر عالی جناب وکرم مسری، جمہوریہ مالدیپ کے خارجہ سکرٹری جناب احمد لطیف، جمہوریہ ماریشس کے وزیر اعظم کے دفتر کے پرنسپل کوآرڈینیٹر سیکورٹی معاملات جناب یودھیسٹہر تھیکا اور ڈیموکریٹک سوشلسٹ ریپبلک آف سری لنکا کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل شویندر سلوا، ڈبلیو ڈبلیو وی، آر ڈبلیو پی، آر ایس پی، وی ایس پی، ی، ایم فل نے اپنے متعلقہ وفود کی قیادت کی۔ سری لنکا میں سی ایس سی کے سیکرٹریٹ کی نمائندگی قائم مقام سیکرٹری کموڈو ایم ایچ نشانتھا پیرس، آر ایس پی، یو ایس پی، ڈائریکٹر نیول آپریشنز اور ڈائریکٹر آف نیول فارن کوآپریشن، سری لنکن نیوی نے کی۔ بنگلہ دیش کے وفد کی قیادت لیفٹیننٹ جنرل وقار الزمان، ایس جی پی، پی ایس سی، پرنسپل سیکورٹی آفیسر، آرمڈ فورسز ڈویژن نے کی جبکہ سیشلز کی نمائندگی سیشلز ڈیفنس فورسز کے چیف آف اسٹاف عالی جناب سائمن آرچینگ ڈائن نے کی۔

شرکاء نے 2022-23 کے لیے تعاون کے روڈ میپ کے نفاذ اور 9-10 مارچ 2022 کو مالدیپ میں کولمبو سیکورٹی کانکلیو کے 5ویں قومی سلامتی مشیر سطح کے اجلاس میں درج ذیل پانچ ستونوں پر کیے گئے فیصلوں پر تبادلہ خیال کیا۔

- میری ٹائم سیفٹی اور سیکورٹی
- دہشت گردی اور بنیاد پرستی کا مقابلہ کرنا

- اسمگلنگ اور بين الاقوامى منظم جرائم كا مقابلہ كرنا
- سائبر سيكورٲى، اہم انفراسٲركچر اور ٲيكنالوجى كا تحفظ
- انسانى امداد اور آفات سے نجات

ننى دہلى

07 جولائى، 2022

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.